

فارم 1095-A کے بارے میں اکثر پوچھے گئے سوالات

1. میں نے NY State of Health سے فارم 1095-A کیوں حاصل کیا؟

آپ کو فارم 1095-A موصول ہوا ہے کیونکہ آپ یا خاندان کے کسی فرد نے کیلنڈر سال 2023 کے تمام یا کچھ حصے کے لیے NY State of Health کے ذریعے نجی صحت بیمہ میں اندراج کرایا ہے۔

فارم 1095-A صرف کوالیفائیڈ ہیلتھ پلانز (Qualified Health Plans, QHP) کے صارفین کو جاری کیا جاتا ہے جو NY State of Health کے ذریعے برونز، سلور، گولڈ اور پلٹینم کی سطحوں پر خریدا جاتا ہے۔ فارم 1095-A تباہی سے متعلق منصوبوں، Medicaid پلانز، Child Health Plus، یا Essential Plan میں شامل صارفین کو جاری نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ وہ پریمیم ٹیکس کریڈٹ (Premium Tax Credit, PTC) کے اہل نہیں ہیں۔

2. مجھے فارم 1095-A کے ساتھ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟

اگر آپ یا خاندان کے کسی فرد نے 2023 کے تمام یا کچھ حصے کے لیے NY State of Health کے ذریعے مالی مدد کے ساتھ صحت بیمہ کی کوریج میں اندراج کرایا ہے تو: آپ کو اپنا وفاقی ٹیکس ریٹرن مکمل کرنے کے لیے فارم 1095-A کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو یا خاندان کے کسی فرد کو جو مالی مدد حاصل ہوئی ہے وہ پریمیم ٹیکس کریڈٹ کی پیشگی ادائیگیوں (advance payments) of the premium tax credit, APTC) کی شکل میں تھی۔ انٹرنل ریونیو سروس ان افراد یا خاندانوں سے جنہیں APTC حاصل ہوئی تھی تقاضا کرتی ہے کہ وہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں اور IRS فارم 8962، پریمیم ٹیکس کریڈٹ (Premium Tax Credit, PTC) منسلک کریں۔ www.irs.gov پر IRS سے فارم 8962 دستیاب ہے۔ فارم 1095-A آپ کو فارم 8962 مکمل کرنے میں مدد کرے گا۔

اگر آپ یا خاندان کے کسی فرد نے 2023 کے تمام یا کچھ حصے کے لیے NY State of Health کے ذریعے مالی مدد کے بغیر صحت بیمہ کی کوریج میں اندراج کرایا ہے تو: اگر آپ کو آپ کی آمدنی پر مبنی اپنے ہیلتھ پلان کی ادائیگی کے لیے مالی مدد موصول نہیں ہوئی ہے تب بھی آپ ٹیکس کے وقت مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پریمیم ٹیکس کریڈٹ (PTC) کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا وفاقی ٹیکس ریٹرن مکمل کرنے کے لیے فارم 1095-A کی ضرورت ہوگی۔ PTC ایک ٹیکس کریڈٹ ہے جو آپ کو پریمیم اخراجات کو پورا کرنے میں مدد کے لیے مالی مدد فراہم کر سکتا ہے۔ امریکن ریسکیو پلان ایکٹ کی بدولت، جس قانون پر مارچ 2021 میں دستخط کیا گیا تھا، اور افراط زر میں کمی کی ایکٹ کے ذریعے توسیع کی گئی تھی، وفاقی غربت کی سطح (Federal Poverty Level, FPL) کے 400% سے زیادہ آمدنی والے افراد بھی PTC کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ فارم 8962 کی ہدایات آپ کو اس بات کا تعین کرنے میں مدد کریں گی کہ آیا آپ اس کریڈٹ کے لیے اہلیت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں یا نہیں۔

ٹیکس کریڈٹ کا دعویٰ کرنے کے لیے آپ کو IRS فارم 8962، پریمیم ٹیکس کریڈٹ فائل کرنا ہوگا۔ فارم 8962 www.irs.gov پر IRS سے یا آپ کے ٹیکس تیار کنندہ کی جانب سے دستیاب ہے۔ آپ کا فارم 1095-A آپ کو وہ معلومات فراہم کرتا ہے جس کی آپ کو فارم 8962 کو مکمل کرنے کیلئے ضرورت ہوگی۔

3. مجھے پچھلے سال 1095-A موصول ہوا تھا، لیکن اب میں Essential Plan میں ہوں اور مجھے وہ موصول نہیں ہوا۔ کیا مجھے اپنا ٹیکس جمع کرانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے؟

فارم 1095-A صرف پریمیم ٹیکس کریڈٹ (PTC) کے اہل صارفین کو جاری کیا جاتا ہے۔ چونکہ آپ کا اندراج 2023 میں Essential Plan میں ہوا تھا، اس لیے آپ PTC کے اہل نہیں تھے اور آپ کو 1095-A فارم موصول نہیں ہوگا۔

4. فارم 1095-A پر کس قسم کی معلومات ہیں؟

فارم 1095-A میں وہ معلومات شامل ہیں جو آپ کو فارم 8962 کو مکمل کرنے کے لیے درکار ہیں اگر آپ PTC کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو پہلے سے موصول ہونے والی APTC کو ملانے کی ضرورت ہے۔ فارم 1095-A کے تین حصے ہیں:

حصہ I: آپ کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کرتا ہے، اور ہر ایک فارم 1095-A پر رپورٹ کردہ مخصوص ہیلتھ پلان کی شروعات اور اختتامی تاریخیں فراہم کرتا ہے۔

حصہ II: اسی پالیسی کے تحت گھر کے ہر ایک رکن کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ نے مالی مدد کے لیے درخواست دی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ آپ کے ٹیکس گھرانے میں کون کون ہے، تو حصہ II میں صرف آپ کے اپنے ٹیکس گھرانے کی معلومات شامل ہوں گی۔ علیحدہ ٹیکس گھرانے کے افراد کو اپنا فارم 1095-A موصول ہوگا۔ اگر آپ نے مالی مدد کے لیے درخواست نہیں دی ہے، تو حصہ II ایک ہی پالیسی میں اندراج شدہ ہر فرد کو شامل کرے گا چاہے وہ آپ کے ٹیکس گھرانے میں نہ ہوں۔

حصہ III: تین چیزوں کے لیے سال کے ہر مہینے کی معلومات فراہم کرتا ہے:

1. آپ کے QHP کا حصہ اور، اگر قابل اطلاق ہو تو، آپ کے اسٹینڈ الون ڈیٹیل پریمیم، جو ضروری صحت کی مراعات (Essential Health Benefits, EHB) سے منسوب ہیں۔ آپ کے فارم 1095-A پر بتائی گئی اس پریمیم لاگت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے سوال 6 دیکھیں۔

2. آپ کی رہائش کی کاؤنٹی میں آپ کی کوریج والے گھرانے کے لیے دوسرے سب سے کم لاگت والے سلور پلان (Second Lowest Cost Silver Plan, SLCSPP) کی پریمیم رقم۔ SLCSPP کی پریمیم رقم فراہم کی جاتی ہے کیونکہ IRS اس پریمیم رقم کو ٹیکس کریڈٹ کی رقم کا حساب لگانے کے لیے استعمال کرتا ہے جس کے آپ اہل ہیں۔ یہ معلومات صرف ان افراد کے لیے فراہم کی گئی ہیں جنہوں نے APTC استعمال کیا ہے۔ جن افراد کا اندراج APTC کے بغیر کرایا گیا تھا (وہ لوگ جنہوں نے مالی مدد کے لیے درخواست نہیں دی تھی یا وہ لوگ جنہوں نے APTC میں سے کسی کو لاگو نہ کرنے کا انتخاب کیا تھا جس کے لیے وہ اہل تھے) ان کے لیے، NY State of Health نے درست SLCSPP تلاش کرنے کے لیے ایک ٹیبل فراہم کیا ہے۔

3. اگر قابل اطلاق ہو تو، پریمیم ٹیکس کریڈٹ کی پیشگی ادائیگی آپ کی جانب سے آپ کی پالیسی جاری کرنے والے کو ادا کی گئی ہے۔

5. مجھے ایک سے زیادہ فارم 1095-A کیوں موصول ہوا ہے؟

ایسی کئی مثالیں ہیں جن میں NY State of Health متعدد فارم 1095-A جاری کرے گی۔ یہاں سب سے عام وجوہات درج ہیں:

- **QHP میں تبدیلی:** اگر آپ یا آپ کے گھرانہ کے کسی فرد نے 2023 کے دوران پلانز تبدیل کر دیے ہیں، تو ہم ہر پلان میں اندراج کی تفصیل کے ساتھ ایک فارم بھیجیں گے۔ اگر آپ نے ہیلتھ پلان میں اندراج کرایا تھا، اور پھر پلان میں اندراج ختم کر دیا گیا، اور پھر اسی پلان میں دوبارہ اندراج کرایا، تو ہم ان دو اندراج کی مدتوں میں سے ہر ایک مدت کے لیے ایک فارم جاری کریں گے۔

- **گھرانہ کے مختلف افراد کا اندراج مختلف پلانز میں کرایا گیا تھا:** اگر آپ کے گھرانہ کے افراد کا علیحدہ QHPs میں اندراج کرایا گیا تھا، تو ہم ہر ایک ہیلتھ پلان کے لیے ایک فارم جاری کریں گے۔

- **APTC کے استعمال میں تبدیلی:** اگر آپ یا آپ کے ٹیکس گھرانہ کے کسی فرد نے کچھ مہینوں میں APTC استعمال کیا اور پھر اگلے مہینوں کے لیے APTC کا استعمال بند کر دیا (یا اس کے برعکس)، تو ایک فارم ان مہینوں کے لیے جاری کیا جائے گا جن میں APTC استعمال کیا گیا تھا اور دوسرا فارم ان مہینوں کے لیے جاری کیا جائے گا جن میں APTC استعمال نہیں کیا گیا تھا۔

- **سبسکرائبر میں تبدیلی:** اگر کسی پالیسی کے بنیادی سبسکرائبر میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو، ایک فارم ان مہینوں کے لیے جاری کیا جائے گا جن میں ایک شخص بنیادی سبسکرائبر تھا، اور دوسرا فارم ان مہینوں کے لیے جاری کیا جائے گا جن میں ایک دوسرا شخص بنیادی سبسکرائبر تھا۔

6. فارم 1095-A پر ماہانہ پریمیم کی رقم جو میں اپنے اکاؤنٹ میں دیکھ رہا ہوں اس پریمیم رقم سے یا میرے ہیلتھ پلان سے موصول ہونے والے بل سے مماثل کیوں نہیں ہے؟

فیڈرل ریگولیشنز پر مٹ (A)PTC کو صرف ان مراعات کے لیے استعمال کرنا ہے جو ضروری صحت کی مراعات (EHB) سمجھی جاتی ہیں اور ان مراعات کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے جو EHB نہیں ہیں۔ چونکہ فارم 1095-A، PTC کا دعویٰ کرنے یا APTC کو ملانے کے لیے درکار معلومات فراہم کرتا ہے، اس لیے فارم میں صرف EHB کا احاطہ کرنے والے پریمیم کا حصہ شامل ہے، جس میں آپ کی ادا کردہ ماہانہ پریمیم کی رقم ظاہر ہو بھی سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ براہ کرم یہ بھی نوٹ کریں کہ اگر آپ کا اسٹینڈ الون ڈینٹل پلان میں اندراج کرایا گیا ہے، تو آپ کے ڈینٹل کوریج پریمیم کا وہ حصہ جو بچوں کے دانتوں کا احاطہ کرتا ہے، جسے EHB سمجھا جاتا ہے، نہ کہ صرف آپ کے میڈیکل ہیلتھ پلان کا پریمیم آپ کے ماہانہ پریمیم کی رقم میں شامل کیا جائے گا۔

Essential Health کی مراعات کی فہرست یہاں دستیاب ہے:

<http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits>

کچھ ہیلتھ پلانز میں صرف EHB شامل ہوتا ہے اور کچھ پلانز میں اضافی مراعات ہوتی ہیں (جیسے اکیوپنکچر)۔

7. میں نے ایک ایسے شخص کے ساتھ ہیلتھ پلان میں اندراج کرایا جو شریک حیات یا منحصر نہیں ہے (جیسے گھریلو پارٹنر یا غیر منحصر بچہ) اور ہمیں مالی مدد موصول ہوئی۔ وہ میرے فارم 1095-A میں کیوں درج نہیں ہیں؟

اگر آپ نے کسی ایسے شخص کے ساتھ مالی مدد والے ہیلتھ پلان میں اندراج کرایا ہے جس کا آپ اپنے ٹیکس ریٹرن پر منحصر کے طور پر دعویٰ نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے لیے اور اپنے زیر کفالت افراد (اگر کوئی ہے) کے لیے ایک فارم 1095-A موصول ہوگا، اور دوسرے فرد کو اپنے لیے 1095-A موصول ہوگا۔

IRS کا تقاضا ہے کہ ہم ہیلتھ پلان میں اندراج شدہ ہر ٹیکس فیملی کو ایک علیحدہ فارم 1095-A بھیجیں، اور ہر فارم 1095-A پر صرف اس مخصوص ٹیکس فیملی کی معلومات شامل کریں۔

8. میرا اور میرے منحصر کا مالی مدد والے ہیلتھ پلان میں اندراج کرایا گیا تھا۔ میرے فارم 1095-A پر منحصر کیوں درج نہیں ہے؟

اگر آپ نے 2023 کوریج سال کے لیے اپنی درخواست پر نشاندہی کی تھی کہ وہ فرد منحصر نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ ایک علیحدہ ٹیکس فیملی میں ہے، تو NY State of Health نے فرد کو ایک علیحدہ فارم 1095-A بھیجا ہے۔ آپ اپنی NY State of Health کی درخواست پر معلومات کو گزشتہ زمانہ کے لیے تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کر سکتے ہیں اور 2023 کے اندراج کے سال کے لیے اپنی درخواست میں معلومات کو درست کر سکتے ہیں۔

9. میرے پورے خاندان کا NY State of Health کے ذریعے ہیلتھ پلان میں اندراج کرایا گیا تھا، لیکن میرے خاندان کے صرف ایک فرد کو فارم 1095-A حاصل ہوا۔ کیا خاندان کے ہر فرد کو فارم کی کاپی حاصل ہونی چاہیے تھی؟

اگر آپ نے مالی مدد کے ساتھ اندراج کرایا ہے، تو فارم 1095-A ہر ہیلتھ پلان میں درج ہر ٹیکس فیملی میں ایک فرد کو بھیجا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شادی شدہ جوڑا ہیلتھ پلان میں اندراج کراتا ہے، تو NY State of Health اکاؤنٹ ہولڈر شریک حیات کو صرف ایک فارم 1095-A بھیجتا ہے۔ اگر شادی شدہ جوڑا اپنے غیر منحصر بچے کے ساتھ مالی مدد والے ہیلتھ پلان میں اندراج کراتا ہے، تو ہم اکاؤنٹ ہولڈر کو ایک فارم 1095-A اور غیر منحصر بچے کو دوسرا فارم 1095-A بھیجیں گے۔ فارم میں صرف اس مخصوص ٹیکس فیملی کی معلومات شامل ہوں گی، چاہے پالیسی کے تحت دیگر افراد بھی شامل ہوں۔

اگر آپ نے مالی مدد کے لیے درخواست نہیں دی تھی، تو آپ کو NY State of Health کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کے ٹیکس فیملی میں کون کون شامل ہے اور ہم ہیلتھ پلان میں اندراج شدہ ہر ایک کے اکاؤنٹ ہولڈر کو ایک فارم 1095-A بھیجیں گے۔

10. مجھے ایک فارم 1095-A موصول ہونا تھا لیکن موصول نہیں ہوا۔ میں فارم کی متبادل کاپی کیسے حاصل کروں؟

اگر فارم 1095-A میں آپ کو مخاطب کیا گیا ہے اور آپ اپنے NY State of Health اکاؤنٹ پر اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، تو آپ www.nystateofhealth.ny.gov پر اپنے آن لائن اکاؤنٹ میں فارم تلاش کر سکتے ہیں۔ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں اور اپنے ان باکس میں فارم 1095-A تلاش کریں۔ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ تک آن لائن رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں، تو براہ کرم NY State of Health کو 1-855-766-7860 پر کال کریں۔

اگر فارم 1095-A میں آپ کو مخاطب کیا گیا ہے اور آپ اس اکاؤنٹ پر اکاؤنٹ ہولڈر نہیں ہیں، تو براہ کرم NY State of Health کو 1-855-766-7860 پر کال کریں۔

11. میں فارم 1095-A سے معلومات کیسے حاصل کر سکتا ہوں جس میں مجھے مخاطب نہیں کیا گیا ہے؟

NY State of Health صرف فارم 1095-A اور ان فارموں کے بارے میں معلومات اس شخص کو فراہم کر سکتا ہے جس کو فارم میں مخاطب کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو فارم 1095-A سے معلومات درکار ہیں جو آپ کو نہیں دی گئی تھیں، تو براہ کرم اس شخص سے رابطہ کریں جس کو فارم کا پتہ دیا گیا تھا یا NY State of Health سے 1-855-766-7860 پر رابطہ کریں۔

12. میں کوریج سال 2023 میں ہونے والی تبدیلی کی اطلاع دینا بھول گیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟

فارم 8962 اس بارے میں ہدایات فراہم کرے گا کہ ان تبدیلیوں کو کیسے ملایا جائے جن کی اطلاع آپ نے NY State of Health کو نہیں دی ہے۔ اگر آپ نے حالات میں تبدیلی کی اطلاع نہیں دی ہے، تو آپ اضافی PTC کے اہل ہو سکتے ہیں یا آپ PTC کو IRS کے مقروض ہو سکتے ہیں۔

فارم 1095-A پر موجود معلومات اس معلومات کی عکاسی کرتی ہے جس کی اطلاع آپ نے 2023 کے اندراج کے سال کے لیے NY State of Health کو دی تھی۔ آپ اپنے اکاؤنٹ میں موجود معلومات کو گزشتہ زمانہ کے لیے تبدیل نہیں کر سکتے جو آپ کے 2023 کے اندراج یا اہلیت پر لاگو ہوتی ہے۔ آپ صرف ممکنہ طور پر تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔

اگر آپ نے 2023 میں ہونے والی تبدیلیاں، جیسے کہ سالانہ آمدنی میں تبدیلی، جس پر آپ منحصر کا دعویٰ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا آپ کہاں رہتے ہیں اسے ظاہر کرنے کے لیے اپنی درخواست کو اپ ڈیٹ نہیں کیا، تو یہ تبدیلیاں آپ کے موجودہ فارم 1095-A میں ظاہر نہیں ہوں گی۔

آگے بڑھتے ہوئے، اگر آپ NY State of Health کے ذریعے ہیلتھ پلان میں اندراج شدہ ہیں، تو آپ کو ہمیشہ حالات میں ہونے والی تبدیلیوں کی اطلاع 30 دنوں کے اندر دینی چاہیے۔

13. میں نے مالی مدد کے ساتھ ہیلتھ پلان میں اندراج کرایا تھا۔ میرا فارم 1095-A کیوں ظاہر کرتا ہے کہ میرا اس مہینے کے لیے APTC تھا جس مہینے میں میرا ہیلتھ پلان میں اندراج نہیں کیا گیا تھا؟

آپ PTC کے لیے صرف ان مہینوں کے لیے اہل ہیں جن میں آپ اپنی صحت بیمہ پریمیم کا اپنا حصہ ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ہیلتھ پلان نے اس مہینے کے لیے کوریج فراہم کی ہے جس میں آپ نے اپنی پریمیم کا اپنا حصہ ادا نہیں کیا ہے، تو آپ کو PTC کو وہ رقم واپس کرنی ہوگی جو آپ کی جانب سے اس مہینے کے ہیلتھ پلان میں ادا کی گئی تھی۔

مثال کے طور پر:

جنوری 2023: آپ مالی مدد کے ساتھ ہیلتھ پلان میں اندراج کراتے ہیں۔

جنوری تا مئی 2023: آپ اپنی پریمیم کا حصہ ہر ماہ وقت پر ادا کرتے ہیں اور APTC ہر ماہ آپ کے ہیلتھ پلان میں ادا کیا جاتا ہے۔

جون 2023: آپ اپنی پریمیم ادا نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی کوریج کو فعال طور پر ختم نہیں کرتے ہیں، اور اپنے جون کے پریمیم کی ادائیگی کے لیے اپنی 90 دنوں کی رعایتی مدت داخل کرتے ہیں۔ جون کے لیے آپ کے ہیلتھ پلان کے لیے APTC کی ادائیگی کی جاتی ہے۔

ستمبر 2023:

آپ نے ابھی تک جون کے لیے اپنی پریمیم ادا نہیں کی ہے اور آپ کو گزشتہ 30 جون تک کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ فیڈرل پریمیم کی ادائیگی کے گریس پیریڈ رولز کے تحت، ہیلتھ پلان کے لیے ضروری تھا کہ وہ فراہم کنندگان کو جون میں استعمال کی جانے والی کسی بھی احاطہ کردہ خدمات کے لیے ادائیگی کرے۔ تاہم، آپ اس مہینے کے لیے APTC کے اہل نہیں ہیں کیونکہ آپ نے پریمیم کا اپنا حصہ ادا نہیں کیا تھا۔ چونکہ آپ اس مہینے میں APTC کے لیے مزید اہل نہیں رہے، اس لیے آپ کو وہ رقم واپس IRS کو ادا کرنی ہوگی۔ جون کے بعد APTC کی ادائیگی نہیں کی گئی تھی لہذا آپ کی ادائیگی کی ذمہ داری صرف ایک ماہ کے لیے ہے۔

14. میں نے 2023 میں NY State of Health کے ذریعے ہیلتھ پلان میں اندراج کرایا اور میرے پاس کم از کم ضروری کوریج کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، میں ٹیکس کریڈٹ کے لیے اہل کیوں نہیں ہوا؟

افورڈ ایبل کیئر ایکٹ (Affordable Care Act, ACA) سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ صحت بیمہ کو اس وقت سستا سمجھا جاتا ہے جب اس کی لاگت کسی فرد یا خاندان کی آمدنی کے مخصوص فیصد سے زیادہ نہ ہو۔ ٹیکس کریڈٹ کی رقم جو کسی فرد یا خاندان کو موصول ہو سکتی ہے وہ دو عوامل پر مبنی ہے: گھریلو آمدنی اور جس کاؤنٹی میں وہ رہتے ہیں وہاں کے دوسرے سب سے کم لاگت والے سلور پلان (Second Lowest Cost Silver Plan, SLCS) کی لاگت۔ اگر SLCS کی لاگت گھریلو آمدنی کے مخصوص فیصد سے زیادہ ہے، تو فرد یا خاندان PTC کے لیے اہل ہو سکتا ہے۔ اگر SLCS کی لاگت مخصوص فیصد سے کم ہے، تو فرد یا خاندان PTC کے لیے اہل نہیں ہے کیونکہ کوریج پہلے سے ہی سستی ہے۔

فارم 8962 کی ہدایات کے ٹیبل 2 میں آمدنی کا زیادہ سے زیادہ فیصد درج ہے جو ایک فرد یا خاندان، اپنی آمدنی کی بنیاد پر، اپنی کاؤنٹی میں SLCS کے لیے ادا کرے گا۔

15. میرے فارم 1095-A پر موجود معلومات درست نہیں لگتی ہیں۔ میں انہیں کیسے بدل سکتا ہوں؟

براہ کرم دیگر اکثر پوچھے گئے سوالات کا جائزہ لیں کہ آیا وہ آپ کے فارم 1095-A پر موجود معلومات کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اگر یہ اکثر پوچھے گئے سوالات آپ کے سوال کو حل نہیں کرتے ہیں، تو براہ کرم مدد کے لیے NY State of Health کو 1-855-766-7860 پر کال کریں۔

16. مجھے NY State of Health سے ایک درست شدہ 1095-A موصول ہوا۔ کیا مجھے اپنا ٹیکس دوبارہ فائل کرنا ہوگا؟

NY State of Health ٹیکس مشورہ نہیں دے سکتا۔ اپنے سوال کے بارے میں مزید معلومات کے لیے براہ کرم www.irs.gov ملاحظہ کریں یا اپنے ٹیکس مشیر سے اپنے حالات پر تبادلہ خیال کریں۔

17. میں نے کوریج کے لیے درخواست دیتے وقت اپنی آمدنی کے بارے میں جو معلومات حاصل کی تھیں ان کی بنیاد پر میں نے اپنی 2023 کی NY State of Health کی درخواست مکمل کی۔ جب میں نے اپنا 2023 کا ٹیکس ریٹرن مکمل کیا تو اس نے نشاندہی کی کہ میری توقع سے زیادہ آمدنی ہے اور میں ٹیکس کریڈٹ کی کم رقم کا اہل ہوں۔ کیا مجھے اضافی ٹیکس کریڈٹ واپس کرنے ہوں گے؟ کیا اس رقم کی کوئی حد ہے جو مجھے دوبارہ ادا کرنی ہے؟

اگر 2023 میں آپ کی اصل آمدنی اس آمدنی سے زیادہ تھی جس کی آپ نے 2023 کے لیے NY State of Health کو اطلاع دی تھی، اور اگر آپ نے کچھ یا تمام ٹیکس کریڈٹ استعمال کر لیے ہیں جن کے آپ اہل تھے، تو IRS کچھ یا تمام اضافی رقم وصول کر سکتا ہے جب آپ اپنے ٹیکس ریفرنڈ کا حساب لگائیں گے۔ 2023 میں آپ کی اصل آمدنی پر منحصر ہے، اس رقم پر ایک حد ہو سکتی ہے جو آپ کو واپس ادا کرنا ہے۔ ادائیگی کی حدود کے بارے میں مزید معلومات کے لیے براہ کرم فارم 8962 کی ہدایات دیکھیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ www.irs.gov بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

18. اپنے 2023 ٹیکس ریٹرن کو مکمل کرنے کے بعد، مجھے IRS کو کچھ ٹیکس کریڈٹ واپس کرنا تھا۔ میں اگلے سال اس سے کیسے بچ سکتا ہوں؟

اگر آپ کو ٹیکس کریڈٹ اس وجہ سے واپس کرنا پڑا کیونکہ آپ کی اصل آمدنی 2023 کے لیے آپ کی متوقع آمدنی سے زیادہ تھی، تو آپ بجائے اس کے کہ وہ تمام ٹیکس کریڈٹ استعمال کریں جس کے لیے آپ اہل ہیں، اپنے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کریڈٹس کا ایک حصہ 2023 میں اپنی پریمیم میں لاگو کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، اگر آپ کی سالانہ آمدنی 2023 کے دوران تبدیل ہوتی ہے، تو یقینی بنائیں کہ تبدیلی کی اطلاع فوراً NY State of Health کو دیں۔

ٹیکس کریڈٹس کی ادائیگی سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی NY State of Health کی درخواست میں آپ کی تخمینی آمدنی درست ہے۔ اگر آپ کی آمدنی 2023 کے دوران تبدیل ہوتی ہے، تو یقینی بنائیں کہ آپ اس تبدیلی کی اطلاع NY State of Health کو فوراً دیں۔

19. میرا 2023 ٹیکس ریٹرن مکمل کرنے کے بعد، میرا پریمیم ٹیکس کریڈٹ اس وقت سے زیادہ تھا جب مجھے میری NY State of Health کی اہلیت کا نوٹس ملا تھا۔ وہ کیوں ہے؟

آپ کے پیشگی پریمیم ٹیکس کریڈٹ کی رقم کا دارومدار آپ کے خاندان کی اندازاً آمدنی اور آپ کے اندراج کے وقت پر دستیاب معلومات پر تھا۔ جب آپ IRS فارم 8962 مکمل کرتے ہیں، تو آپ کا کل پریمیم ٹیکس کریڈٹ آپ کی اصل آمدنی اور کاؤنٹی میں جہاں آپ رہتے ہیں، دوسرے سب سے کم لاگت والے سلور پلان کی لاگت پر مبنی ہوگا۔ اگر IRS فارم 8962 سے آپ کا کل پریمیم ٹیکس کریڈٹ آپ کے ایڈوانس پریمیم ٹیکس کریڈٹ سے زیادہ ہے، تو آپ کو بڑے ریفرنڈ یا کم ٹیکس کی صورت میں مزید مالی مدد مل سکتی ہے۔

20. اگر مجھے IRS کو کچھ ٹیکس کریڈٹ واپس ادا کرنے ہوں تو کیا مجھے اپنے ہیلتھ پلان میں ٹیکس کریڈٹ بھی واپس کرنے ہوں گے؟

نہیں، آپ کو اپنے ٹیکس کریڈٹس کو IRS کے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے ٹیکس کریڈٹس کو اپنے ہیلتھ پلان کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کرتے ہیں۔

21. میرا اندراج لاگت کے اشتراک میں کمی (Cost Sharing Reductions, CSRs) کے ساتھ NY State of Health پلان میں کرایا گیا تھا۔ جب میں اپنا ٹیکس فائل کرتا ہوں تو کیا مجھے CSR کی مراعات کو ملانا ہوگا؟

نہیں، CSRs ملتا نہیں ہے۔

22. میں 2023 میں APTC کی جتنی رقم وصول کرنے کا اہل تھا اس بارے میں NY State of Health سے میں متفق نہیں ہوں۔ کیا میں NY State of Health میں اپیل دائر کر سکتا ہوں؟

اہلیت کے تعین، بشمول APTC کی جس رقم کے لیے کوئی اہل ہے اس پر، تعین کی تاریخ سے 60 دنوں کے اندر اپیل کی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر APTC اہلیت کے فیصلوں پر آپ کو فارم 1095-A موصول ہونے تک اپیل نہیں کی جا سکتی ہے۔

تاہم، اگر آپ نے 2023 کے دوران APTC کا استعمال کیا ہے، تو آپ کو اپنے وفاقی ٹیکس ریٹرن پر APTC کی جو رقم آپ نے اس رقم کے ساتھ استعمال کی ہے اس کے ساتھ آپ کو ملانے کی ضرورت ہے۔ اپنی 2023 کی APTC کی اہلیت کے لیے NY State of Health کے پاس اپیل دائر کرنے کی بجائے، اپنا ٹیکس ریٹرن مکمل کرنا اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ کو وہ تمام ٹیکس کریڈٹ ملیں گے جن کے آپ اہل ہیں۔

23. میں اپنے فارم 1095-A پر موجود معلومات سے متفق نہیں ہوں۔ کیا میں اپیل دائر کر سکتا ہوں؟

فارم 1095-A قابل اپیل نہیں ہے۔

براہ کرم دوسرے اکثر پوچھے گئے سوالات کا جائزہ لیں کہ آیا وہ آپ کے فارم 1095-A پر موجود معلومات کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اگر ان اکثر پوچھے گئے سوالات سے آپ کے سوال کا حل نہیں نکلتا ہے، تو براہ کرم مدد کے لیے NY State of Health کو 1-855-766-7860 پر کال کریں۔

24. مجھے اپنا ٹیکس فائل کرانے میں مدد کہاں سے مل سکتی ہے؟

آپ اپنے ٹیکس مشیر یا تیاری کرانے والے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ www.irs.gov پر جا کر IRS سے 1040-829 (800) پر کال کر کے IRS سے پیر تا جمعہ صبح 7:00 بجے سے شام 7:00 بجے کے درمیان کال کر کے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ IRS ویب سائٹ ان لوگوں کے لیے "مدد اور وسائل" پیش کرتی ہے جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ مدد میں "مقامی ٹیکس دہندگان کے وکیل" اور "کم انکم ٹیکس ادا کرنے والی کلینکس" شامل ہیں۔

مفت ٹیکس امداد مقامی رضاکارانہ انکم ٹیکس اسسٹنس (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) سائٹس کے ذریعے بھی ان ٹیکس دہندگان کے لیے دستیاب ہے جو عام طور پر \$60,000 سے کم کماتے ہیں یا معذور ہیں، یا محدود انگریزی بولنے والے ہیں یا عمر رسیدہ ہیں۔ مزید معلومات کے لیے www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers پر کال کریں یا (800)-906-9887 ملاحظہ کریں۔

25. کیا مجھے 2023 کے لیے ٹیکس فائل کرنا ہوگا؟

اگر ٹیکس کریڈٹس کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ مہینوں کے لیے آپ کا اندراج کیا گیا ہے، تو آپ کو ٹیکس فائل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ مختصر فارم جیسے کہ فارم 1040EZ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو زیادہ طویل فارمز میں سے کسی ایک، جیسے کہ فارم 1040 یا فارم 1040A کو استعمال کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنے ٹیکس ریٹرن کے ساتھ فارم 8962 بھی فائل کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو ان فارمز میں مدد کی ضرورت ہے، تو براہ کرم مزید معلومات کے لیے www.irs.gov ملاحظہ کریں۔

اگر ٹیکس کریڈٹس کے بغیر آپ کا اندراج کرایا گیا ہے، تو براہ کرم مزید معلومات کے لیے www.irs.gov ملاحظہ کریں۔

26. مجھے NY State of Health کے علاوہ کسی اور جگہ سے 1095 فارم کیوں موصول ہوا؟

ہر قسم کے صحت بیمہ کے لیے علیحدہ فارم 1095 بنائے جاتے ہیں جس میں صارفین کا 2023 میں اندراج کیا گیا تھا۔ 1095 فارمز کی تین اقسام 1095-A، 1095-B اور 1095-C ہیں۔

فارم 1095-A بنایا جاتا ہے اور کسی ایسے شخص کو بھیجا جاتا ہے جس کا 2023 میں کسی وقت مارکیٹ پلیس میں QHP (ٹیکس کریڈٹ کے ساتھ یا اس کے بغیر) اندراج کیا گیا تھا۔

فارم 1095-B سے 2023 میں کسی مرحلے پر Medicaid، Child Health Plus، Essential Plan، Medicare یا Tricare میں اندراج کی عکاسی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا یا آپ کے فیملی ممبر کا اندراج 2023 میں کسی مرحلے پر Medicaid، Child Health Plus، Essential Plan، Medicare، یا Tricare میں ہوا تھا تو، فارم 1095-B آپ کے NY State of Health کے ان باکس میں دستیاب کرایا جائے گا۔ آپ فارم 1095-B کی درخواست نیو یارک اسٹیٹ محکمہ صحت (New York State Department of Health) سے 1-800-541-2831 پر کال کر کے یا 1095B@health.ny.gov ایک ای میل بھیج کر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اندراج دوسری اقسام کی کوریج – جیسے تباہی سے متعلق منصوبہ، Medicare پارٹ A یا C، TRICARE، محکمہ برائے سابق فوجیوں کے امور، یا آجر کی زیر کفالت مخصوص صحت بیمہ – میں ہوا تھا تو، آپ فارم 1095-B یا فارم 1095-C دوسرے ماخذ سے موصول کر سکتے ہیں۔

فارم 1095-C قابل اطلاق بڑے آجروں (Applicable Large Employers, ALEs) کی طرف سے بھیجا جاتا ہے جو افورڈ ایبل کیئر ایکٹ کی مشترکہ ذمہ داری کے التزامات سے مشروط ہیں۔ ALE ایک ایسا آجر ہے جس نے کیلنڈر سال کے دوران اوسطاً کم از کم 50 کل وقتی ملازمین (بشمول کل وقتی مساوی ملازمین) کو ملازمت دی۔

اگر آپ کے 1095 فارمز کے بارے میں سوالات ہیں، تو براہ کرم ان فارمز پر درج فون نمبروں پر کال کریں۔

27. میرا شریک حیات بنیادی اکاؤنٹ ہولڈر تھا لیکن اب فوت ہو چکا ہے۔ میں اپنے ٹیکس فائل کرنے کے لیے ان کے فارم 1095-A تک کیسے رسائی حاصل کر سکتا ہوں؟

جو میاں بیوی مشترکہ طور پر اپنا ٹیکس جمع کرواتے ہیں ان کے لیے، ہم زندہ بچ جانے والی بیوی/شوہر کو فارم 1095-A فراہم کر سکتے ہیں اگر وہ فارم 1095-A میں درج ہے۔ براہ کرم مدد کے لیے NY State of Health سے 1-855-766-7860 پر رابطہ کریں۔

28. میں کسی متوفی کے فارم 1095-A تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ میرا شوہر نہیں تھا/میری بیوی نہیں تھی اور میں فارم 1095-A میں زندہ بچ جانے والی بیوی/شوہر کے طور پر درج نہیں ہوں۔

آپ کو فارم 1095-A کی درخواست NY State of Health کو لکھے گئے خط کے ساتھ کرنی ہوگی۔ اس خط میں عدالتی دستاویزات کی کاپیاں ضرور شامل ہونی چاہئیں جن میں مرنے والے شخص کی جائیداد کے لیے ایگزیکٹیوٹری یا ایڈمنسٹریٹر کا نام درج ہو۔ ان عدالتی دستاویزات کو اکثر لیٹرز ٹیسٹامینٹری یا لیٹرز آف ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ان دستاویزات کو حاصل کرنے کے بارے میں سوالات ہیں تو آپ کسی وکیل سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ موصول ہونے کے بعد، NY State of Health اس شخص کو فارم 1095-A فراہم کرے گا جس کا نام دستاویزات میں بطور ایگزیکٹیوٹری یا ایڈمنسٹریٹر درج ہے۔

نوٹ کریں کہ اگر آپ کے پاس متوفی شخص کے لیے پاور آف اٹارنی ہے، تب بھی آپ کو فارم 1095-A حاصل کرنے کے لیے اوپر بیان کردہ تحریری درخواست اور عدالتی دستاویزات فراہم کرنے ہوں گے۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم NY State of Health سے 1-855-766-7860 پر رابطہ کریں۔

29. مجھے پریمیم ٹیکس کریڈٹ کے بارے میں IRS سے ایک 12C خط موصول ہوا ہے۔ مجھے اس خط کا کیا کرنا چاہیے؟

IRS نے آپ کو یہ خط اس لیے بھیجا ہے کیونکہ NY State of Health نے انہیں مطلع کیا ہے کہ پچھلے سال آپ کی یا آپ کے خاندان کی بیمہ کمپنی کو پریمیم ٹیکس کریڈٹ کی پیشگی ادائیگی کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ، جب آپ نے اپنے 2023 کے ٹیکس جمع کرائے تو آپ نے فارم 8962 کا استعمال کر کے پریمیم ٹیکس کریڈٹ کی پیشگی ادائیگیوں میں مصالحت نہیں کی۔

آپ خط کا جواب دینے کے پابند ہیں، چاہے آپ اس میں دی گئی معلومات سے متفق نہ ہوں۔ خط میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں اور IRS کے جواب میں اپنا فارم 1095-A اور IRS فارم 8962 شامل کریں۔ NY State of Health فارم 8962 یا ٹیکس بھرنے کے عمل کے بارے میں سوالات کا جواب نہیں دے سکتی۔ آپ کو ٹیکس تیار کرنے والے سے مشورہ کرنا چاہیے یا اگر آپ کے سوالات ہیں تو IRS سے رابطہ کریں۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ آپ کو خط کا جواب دینا ضروری ہے چاہے آپ نے مارکیٹ پلیس کے ذریعے صحت بیمہ میں اندراج نہیں کرایا ہے۔

بہتر کردہ مالی مدد کے بارے میں اپ ڈیٹ

مارچ 2021 میں نافذ کردہ امریکن ریسکیو پلان کے تحت، موجودہ NYSOH اندراج کرانے والوں نے بڑے ٹیکس کریڈٹ حاصل کیے، زیادہ آمدنی والے نیو یارک کے باشندے کیلنڈر سال 2021 اور 2023 کے دوران پہلی بار APTC کے اہل ہوئے۔ اگست 2023 میں نافذ ہونے والے مہنگائی میں کمی کے قانون نے زیادہ آمدنی والے نیو یارک کے باشندوں کو ٹیکس کریڈٹ کی فراہمی میں 2025 تک توسیع کر دی۔ کوریج اور ٹیکس کریڈٹ تمام قابل اطلاق مہینوں کے لیے صارفین کے 1095A پر ظاہر ہوتے ہیں۔

ٹیکسز، ٹیکس فارمز، اور استثنیٰ کے بارے میں اکثر پوچھے گئے سوالات

اگر مندرجہ ذیل میں سے کسی کے بارے میں آپ کے سوالات ہیں، تو براہ کرم مزید معلومات کے لیے www.irs.gov ملاحظہ کریں یا اپنے ٹیکس مشیر سے اس بارے میں بات کریں۔ یہ سوالات ٹیکس فائلنگ کے لیے مخصوص ہیں اور ہم ٹیکس سے متعلق مشورہ نہیں دے سکتے۔

- میں نے مالی مدد کے لیے NY State of Health کو درخواست نہیں دی۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آیا میں 2023 کے اپنے ٹیکس گوشواروں پر PTC کا دعویٰ کر سکتا ہوں یا نہیں؟
- میری ٹیکس فیملی میں کون ہے؟ میں یہ کیسے جان سکتا ہوں کہ آیا کوئی منحصر ہے یا نہیں؟
- میں اپنے ٹیکس ریٹرن پر ہیلتھ کیئر کوریج کی اطلاع کیسے دوں؟
- میں اپنے ٹیکس ریٹرن پر فارم 1095-A سے معلومات کی اطلاع کیسے دوں؟
- کیا مجھے فارم 8962 مکمل کرنے کی ضرورت ہے؟

- میں اپنے ٹیکس ریٹرن پر فارم 8962 کیسے مکمل کروں؟ میں اپنا فارم 8962 مکمل کرنے کے لیے فارم 1095-A کیسے استعمال کروں؟ بطور آمدنی کس چیز کا شمار ہوتا ہے؟ میرا FPL کیا ہے؟
- کیا IRS کی رقم میرے ذمے واجب الادا ہے؟ کیا مجھے IRS سے ریفرنڈ موصول ہوگا؟ مجھے IRS کو کتنے ٹیکس کریڈٹس واپس کرنے ہوں گے؟ مجھے IRS سے ٹیکس کریڈٹس میں کتنا اضافی ملے گا؟
- میں سیلف ایمپلائیڈ ہوں۔ کیا میں اپنے NY State of Health کی پریمیمز کا اپنے ٹیکس ریٹرنز پر کاروباری اخراجات کے طور پر دعویٰ کر سکتا ہوں؟
- مجھے ٹیکس کریڈٹ واپس ادا کرنا پڑا یا مجھے اضافی ٹیکس کریڈٹس ملے۔ کیا مجھے 2023 کے لیے اپنی آمدنی کا مختلف طریقے سے اندازہ لگانا چاہیے؟
- میں نے مالی مدد والے ہیلتھ پلان میں اندراج کرایا اور اب میری آمدنی %100 FPL سے کم ہے۔ کیا میں اب بھی PTC کے لیے اہل ہوں؟